

Attempt ..... questions

- 1 Draw the Graph  $x = \frac{5}{2}$  1 گراف تشکیل دیجیے۔  $x = \frac{5}{2}$
- 2 Draw the graph  $y = 3$  2 گراف بنائیں  $y = 3$
- 3 By locating three points P(3 , 2) Q(6 , 7) and R(9 , 3) on graph drawn on triangle. 3 تین نقاط (3, 2) P، (6, 7) Q، (9, 3) R کو گراف پر ظاہر کر کے ایک مثلث بنائیں۔
- 4 Determine the quadrant in which point lie: 4 دیے گئے نقاط کس ربع میں واقع ہیں:  
P( - 4 , 3) and S(2 , - 6) S(2 , - 6) اور P(- 4 , 3)
- 5 Write down distance formula between two points. 5 دو نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کرنے کا فارمولہ لکھیں۔
- 6 Find the mid-point of pair of points: 6 نقاط کا درمیانی نقطہ معلوم کریں۔  
(7 , 5), (1 , - 1). (7 , 5), (1 , - 1).
- 7 Write name of different types of triangle with respect to sides. 7 مثلث کے اضلاع کی لمبائیوں کے لحاظ سے اس کی اقسام کی نام لکھیں۔
- 8 Find the distance between the points 8 درج ذیل نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔  
A(2 , 6) B(3 , - 6). A(2 , 6) B(3 , - 6).

Attempt ..... questions